



مقامِ اہمیت کے تحت پیش کی گئی درخواست نمبر 3	
شمارہ: 5390	نام: Dhumane
وقت: 9:02	تاریخ: 27.11.13
مقررہ وقت کے ساتھ ساتھ:	
مقررہ وقت:	

Handwritten signature/initials in red ink.

مقامی سطح پر درخواست نمبر 36/2013-ج

Handwritten signature/initials in blue ink.

مقامِ اہمیت کے تحت پیش کی گئی درخواست نمبر 3 کے تحت درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ

مقررہ وقت کے ساتھ ساتھ

مقررہ وقت کے ساتھ ساتھ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ
 درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ
 درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ
 درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ
 درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ

مقررہ وقت کے ساتھ ساتھ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ
 درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ
 درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ
 درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ
 درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ
 درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ
 درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ
 درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ
 درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ
 درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ

مقررہ وقت کے ساتھ ساتھ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ
 درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ
 درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ
 درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ
 درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ
 درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ
 درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ
 درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ
 درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ
 درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ درخواستیہ

1. Optional Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons especially women and children

2. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography

3. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflicts

Optional Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons especially women and children

1. Optional Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons especially women and children

1. Optional Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons especially women and children

Optional Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons especially women and children

2. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography

1. Optional Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons especially women and children

2. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography

3. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflicts

התקשרו, וְהָיוּ לְכָל אֶתְנֵסְתָּא דְּבֵינָא דְּכֻלָּהּ וְהָיוּ לְכָל אֶתְנֵסְתָּא דְּבֵינָא דְּכֻלָּהּ וְהָיוּ לְכָל אֶתְנֵסְתָּא דְּבֵינָא דְּכֻלָּהּ

הַתְּחִלָּה וְהַסֵּוֹף

• פסוק 9 וְהָיוּ לְכָל אֶתְנֵסְתָּא דְּבֵינָא דְּכֻלָּהּ וְהָיוּ לְכָל אֶתְנֵסְתָּא דְּבֵינָא דְּכֻלָּהּ וְהָיוּ לְכָל אֶתְנֵסְתָּא דְּבֵינָא דְּכֻלָּהּ וְהָיוּ לְכָל אֶתְנֵסְתָּא דְּבֵינָא דְּכֻלָּהּ

הַתְּחִלָּה וְהַסֵּוֹף

• פסוק 11 וְהָיוּ לְכָל אֶתְנֵסְתָּא דְּבֵינָא דְּכֻלָּהּ וְהָיוּ לְכָל אֶתְנֵסְתָּא דְּבֵינָא דְּכֻלָּהּ וְהָיוּ לְכָל אֶתְנֵסְתָּא דְּבֵינָא דְּכֻלָּהּ וְהָיוּ לְכָל אֶתְנֵסְתָּא דְּבֵינָא דְּכֻלָּהּ

הַתְּחִלָּה

וְהָיוּ לְכָל אֶתְנֵסְתָּא דְּבֵינָא דְּכֻלָּהּ וְהָיוּ לְכָל אֶתְנֵסְתָּא דְּבֵינָא דְּכֻלָּהּ וְהָיוּ לְכָל אֶתְנֵסְתָּא דְּבֵינָא דְּכֻלָּהּ וְהָיוּ לְכָל אֶתְנֵסְתָּא דְּבֵינָא דְּכֻלָּהּ

הַתְּחִלָּה וְהַסֵּוֹף

וְהָיוּ לְכָל אֶתְנֵסְתָּא דְּבֵינָא דְּכֻלָּהּ וְהָיוּ לְכָל אֶתְנֵסְתָּא דְּבֵינָא דְּכֻלָּהּ וְהָיוּ לְכָל אֶתְנֵסְתָּא דְּבֵינָא דְּכֻלָּהּ וְהָיוּ לְכָל אֶתְנֵסְתָּא דְּבֵינָא דְּכֻלָּהּ

3. סעיף 9 (9) וסעיף 13 (13) של החוק אינם מניחים כל תנאי שינוי
 המדיניות. סעיף 13 (13) של החוק מניח את התנאי הראשוני הנדרש
 לפיקוח המדיניות, היינו, היות המדיניות פיקוחית. סעיף 9 (9) של
 החוק מניח את התנאי השני הנדרש, היינו, היות המדיניות מדיניות
 כלכלית. סעיף 13 (13) של החוק מניח את התנאי השלישי הנדרש, היינו,
 היות המדיניות מדיניות כלכלית. סעיף 9 (9) של החוק מניח את התנאי
 הרביעי הנדרש, היינו, היות המדיניות מדיניות כלכלית. סעיף 13 (13)
 של החוק מניח את התנאי החמישי הנדרש, היינו, היות המדיניות
 מדיניות כלכלית.

דרישות שיש להעמיד למען הצדדים

15. ביולי 2013 ספר דרישות הנתנה 117 הצדדים 154 סעיפים
 הדורשים מידע על המדיניות הכלכלית, הכלכלית והמדיניות הכלכלית.
 המדיניות הכלכלית והמדיניות הכלכלית הנתנה 177 הצדדים
 המדיניות הכלכלית והמדיניות הכלכלית הנתנה 177 הצדדים
 המדיניות הכלכלית והמדיניות הכלכלית הנתנה 177 הצדדים

שנת הוצאה לאור	ספר דרישות	שנת הוצאה לאור
2002	21 סעיפים	2000
2004	9 סעיפים	2001
2010	17 סעיפים	-
2012	19 סעיפים	2000
2003	1 סעיף	2001
2005	14 סעיפים	2002
2005	15 סעיפים	2000
2003	30 סעיפים	2000
2008	26 סעיפים	2001

7 دسمبر 2004	-	سرسبز
	26 ستمبر 2001	سرخ
25 دسمبر 2003	14 دسمبر 2000	سرخ
11 اگست 2004	12 دسمبر 2000	سرخ
26 ستمبر 2003		سرخ
30 اگست 2004	13 دسمبر 2000	سرخ
18 مارچ 2006	12 دسمبر 2000	سرخ
24 اگست 2002	12 دسمبر 2000	سرخ
29 اگست 2002	10 اگست 2002	سرخ
29 دسمبر 2004	12 دسمبر 2000	سرخ
5 دسمبر 2001	13 دسمبر 2000	سرخ
15 مئی 2002	15 دسمبر 2000	سرخ
24 مارچ 2012	14 دسمبر 2000	سرخ
2 دسمبر 2007	11 دسمبر 2001	سرخ
6 اگست 2006	13 دسمبر 2000	سرخ
13 مئی 2002	14 دسمبر 2000	سرخ
15 دسمبر 2004	13 دسمبر 2000	سرخ
6 اگست 2006		سرخ
18 اگست 2009		سرخ
29 دسمبر 2004	8 اگست 2002	سرخ

8 ژوئن 2010			کوریئر
4 اگست 2004	12 ستمبر 2000		کوریئر
25 ستمبر 2003			کوریئر
	14 ستمبر 2000		کوریئر
9 ستمبر 2003	16 دسمبر 2001		کوریئر
25 اکتوبر 2012			کوریئر
24 نومبر 2003	12 ستمبر 2000		کوریئر
6 دسمبر 2003	12 ستمبر 2000		کوریئر
	10 ستمبر 2002		کوریئر
28 جنوری 2005			کوریئر
30 ستمبر 2003	12 ستمبر 2000		کوریئر
20 اکتوبر 2005			کوریئر
5 نومبر 2008	15 ستمبر 2000		کوریئر
17 ستمبر 2002	13 ستمبر 2000		کوریئر
5 دسمبر 2004	1 دسمبر 2002		کوریئر
18 دسمبر 2004	15 اگست 2002		کوریئر
7 ژانوری 2003	14 ستمبر 2000		کوریئر
12 دسمبر 2004	20 ستمبر 2002		کوریئر
22 جنوری 2012	-		کوریئر
6 ستمبر 2006	12 ستمبر 2000		کوریئر

7 سؤالچؤرؤك 2006	12 سؤالچؤرؤك 2000	سؤالچؤرؤك
29 سؤالچؤرؤك 2002	12 سؤالچؤرؤك 2000	سؤالچؤرؤك
22 سؤالچؤرؤك 2010		سؤالچؤرؤك
5 سؤالچؤرؤك 2003	14 سؤالچؤرؤك 2000	سؤالچؤرؤك
5 سؤالچؤرؤك 2006	13 سؤالچؤرؤك 2000	سؤالچؤرؤك
14 سؤالچؤرؤك 2006	12 سؤالچؤرؤك 2000	سؤالچؤرؤك
21 سؤالچؤرؤك 2012	-	سؤالچؤرؤك
11 سؤالچؤرؤك 2011	13 سؤالچؤرؤك 2000	سؤالچؤرؤك
21 سؤالچؤرؤك 2004		سؤالچؤرؤك
1 سؤالچؤرؤك 2004	-	سؤالچؤرؤك
9 سؤالچؤرؤك 2004		سؤالچؤرؤك
10 سؤالچؤرؤك 2007	14 سؤالچؤرؤك 2000	سؤالچؤرؤك
14 سؤالچؤرؤك 2004	-	سؤالچؤرؤك
19 سؤالچؤرؤك 2011	13 سؤالچؤرؤك 2000	سؤالچؤرؤك
1 سؤالچؤرؤك 2008	-	سؤالچؤرؤك
22 سؤالچؤرؤك 2006	14 سؤالچؤرؤك 2000	سؤالچؤرؤك
22 سؤالچؤرؤك 2010	13 سؤالچؤرؤك 2000	سؤالچؤرؤك
5 سؤالچؤرؤك 2011	12 سؤالچؤرؤك 2002	سؤالچؤرؤك
20 سؤالچؤرؤك 2009	12 سؤالچؤرؤك 2000	سؤالچؤرؤك
9 سؤالچؤرؤك 2009		سؤالچؤرؤك

17 دسمبر 2010	13 دسمبر 2000	زائر گیسٹ
23 دسمبر 2008	14 دسمبر 2001	ایم پی
2 دسمبر 2006	12 دسمبر 2000	ایم پی
29 دسمبر 2003	13 دسمبر 2002	ڈپٹی ایئر
	9 دسمبر 2002	ڈپٹی ایئر
11 دسمبر 2009	-	ڈپٹی ایئر
31 دسمبر 2008	-	ناجائز گیسٹ
5 دسمبر 2005		ناجائز
15 دسمبر 2005		ناجائز
12 دسمبر 2006	-	ناجائز
2 دسمبر 2003	13 دسمبر 2000	ناجائز گیسٹ
26 دسمبر 2003		ڈپٹی ایئر
25 دسمبر 2004	10 دسمبر 2002	ڈپٹی ایئر
5 دسمبر 2005	9 دسمبر 2002	ڈپٹی ایئر
24 دسمبر 2003	14 دسمبر 2000	ڈپٹی ایئر
22 دسمبر 2004		ڈپٹی ایئر
24 دسمبر 2004	13 دسمبر 2001	ڈپٹی ایئر
20 دسمبر 2008	14 دسمبر 2001	ڈپٹی ایئر گیسٹ
23 دسمبر 2003	25 دسمبر 2002	ڈپٹی ایئر
20 دسمبر 2009	13 دسمبر 2000	ڈپٹی ایئر گیسٹ

2005 15	2000 14	
2005 17	-	
2009 26	-	
2002 12	2000 15	
2003 24	2000 14	
2005 22		
2003 24		
2003 4	2000 13	
2011 2		
2001 5	2000 13	
2008 27		
2006 23		
2011 25		
2006 20	2000 15	
2004 30		
2002 16	2000 13	
2012 12	2001 12	
2005 27	2000 12	
2002 19	2000 14	
2004 12		

2004 30 ستمبر 2004	2001 21 دسمبر 2001	میراج
2001 28 دسمبر 2001	2000 13 دسمبر 2000	میراج میراج
2003 23 ستمبر 2003	2000 13 دسمبر 2000	میراج
2005 13 دسمبر 2005		میراج
2004 18 دسمبر 2004	2000 13 دسمبر 2000	میراج
2004 22 ستمبر 2004	2000 12 دسمبر 2000	میراج
2002 23 دسمبر 2002	2000 14 دسمبر 2000	میراج
2002 28 دسمبر 2002	2000 14 دسمبر 2000	میراج
2003 26 ستمبر 2003	2001 4 دسمبر 2001	میراج
2004 10 دسمبر 2004	2000 12 دسمبر 2000	میراج
2009 29 دسمبر 2009		میراج
	2000 13 دسمبر 2000	میراج
2005 16 ستمبر 2005	2000 14 دسمبر 2000	میراج
2002 4 دسمبر 2002	2000 14 دسمبر 2000	میراج
2004 26 دسمبر 2004	2000 12 دسمبر 2000	میراج
2003 26 ستمبر 2003	2000 14 دسمبر 2000	میراج
2010 20 دسمبر 2010	2000 14 دسمبر 2000	میراج
2006 23 دسمبر 2006		میراج
2007 20 دسمبر 2007	2000 10 دسمبر 2000	میراج
2003 27 دسمبر 2003	2000 13 دسمبر 2000	میراج

2001 6 ستمبر 2001	2000 12 ستمبر 2000	سہ ماہی
2004 22 جنوری 2004	2002 22 جنوری 2002	سہ ماہی
	2001 27 ستمبر 2001	سہ ماہی
2004 21 ستمبر 2004	2001 15 ستمبر 2001	سہ ماہی
2004 21 دسمبر 2004	2001 15 ستمبر 2001	سہ ماہی
2004 20 دسمبر 2004	2000 14 ستمبر 2000	قریبی
2002 1 دسمبر 2002	2000 13 ستمبر 2000	سہ ماہی
	2000 13 ستمبر 2000	سہ ماہی
2004 21 مئی 2004		سہ ماہی
2010 29 اگست 2010	2002 20 ستمبر 2002	سہ ماہی
2007 25 مئی 2007		سہ ماہی
2012 24 ستمبر 2012	2001 8 جنوری 2001	سہ ماہی
2004 1 جنوری 2004	2000 12 ستمبر 2000	سہ ماہی
2006 27 اگست 2006	2002 2 اگست 2002	سہ ماہی
2009 8 اگست 2009	2000 13 ستمبر 2000	سہ ماہی
2002 8 جنوری 2002		سہ ماہی
	2001 18 ستمبر 2001	سہ ماہی
2005 12 جنوری 2005	2000 12 ستمبر 2000	سہ ماہی
2009 9 ستمبر 2009		سہ ماہی
2009 8 دسمبر 2009	2000 12 ستمبر 2000	سہ ماہی

6	2007	26	2001	مہینہ ۱۴۰۵
14	2003	13	2000	دسمبر
25	2003	13	2000	نومبر
28	2005			دسمبر ۱۴۰۵
		12	2000	نومبر
21	2004	15	2001	دسمبر
21	2009			نومبر
9	2006	14	2000	نومبر ۱۴۰۵
24	2006	13	2000	نومبر
3	2005	13	2000	نومبر
4	2005	13	2000	نومبر
12	2008	28	2001	دسمبر ۱۴۰۵
13	2002	14	2000	نومبر
8	2012			نومبر
24	2005			نومبر

25 نومبر 2013

دسمبر ۱۴۰۵

نومبر ۱۴۰۵







